



سوال

(266) یتیم پوتے کا وراثت میں حصہ

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

لاہور سے محمداشرف لکھتے ہیں کہ ایک شخص کی وفات کے وقت اس کی بیوی دو بیٹیاں تین بیٹے اور ایک یتیم پوتہ زندہ تھے۔ ایک بیٹے نے تحصیل دار کے سامنے بیان دیا کہ مرحوم کے صرف تین بیٹے اور ایک یتیم پوتہ زندہ ہیں اس طرح بیوہ اور اس کی دونوں بیٹیوں کو محروم کر کے مرحوم کی جائیداد چار حصوں میں مساویانہ تقسیم ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ یتیم پوتہ بیٹیوں کی موجودگی میں اپنے دادا کی وراثت لے سکتا ہے جبکہ پوتے کا موقف یہ ہے کہ مجھے اپنے دادا کی طرف سے خیرات ملی ہے۔

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

صورت مسئلہ میں شرعی تقسیم یہ ہے کہ بیوہ کو آٹھواں حصہ دینے کے بعد باقی جائیداد حقیقی اولاد میں اس طرح تقسیم کی جائے گی بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں دو گنا حصہ ملے۔ جس کی صورت یہ ہے کہ کل جائیداد کے 64 حصے جائیں گے۔ بیوہ کو آٹھ حصے دینے کے بعد باقی 56 حصے لڑکوں اور لڑکیوں میں 2:1 کی نسبت سے تقسیم کر دیئے جائیں۔ یعنی لڑکوں کو چودہ چودہ اور لڑکیوں کو سات سات حصے مل جائیں۔ اولاد کی موجودگی میں پوتہ محروم رہتا ہے۔ اس کی حوصلہ افزائی دو طرح سے کی جاسکتی تھی۔

1- مرحوم وصیت کے ذریعے اسے کچھ سے سکتا تھا۔ بشرط یہ کہ وصیت 3/1 سے زائد نہ ہوتی۔

2- وراثہ اپنی مرضی سے اسے کچھ نہ کچھ دے دیں لیکن وہ اس کے پابند نہیں ہیں۔ اب درج بالا سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ جائیداد کی تقسیم شریعت کے مطابق نہیں ہوئی۔ وراثہ کو چاہیے کہ جس کسی نے دوسرے کا حق دانستہ یا نادانستہ طور پر دیا جاتا ہے۔ وہ حق دار کو اس کا حصہ واپس کر دے۔ وگرنہ قیامت کے دن اس کے متعلق باز پرس ہوگی۔ اس سلسلہ میں یتیم پوتے کا موقف صحیح نہیں ہے۔ (واللہ اعلم)

حذاما عندی واللہ اعلم بالصواب



مجلس البحث والدراسات
مہدث فتویٰ

فتاویٰ اصحاب الحدیث

جلد: 1 صفحہ: 294